

## تحفظ بچگان کی تعلیم والدین اور نگرانوں کے لیے معلومات

سکول کا نام  
Name of school

تعلیمی پروگرام میں شریک درجہ/درجات  
Participating Year/s

فی ہفتہ اسباق  
Number of lessons per week

سکول میں رابطہ شخص  
School contact person

رابطہ شخص کا فون نمبر  
Contact telephone number

محترم والدین اور نگران خواتین و حضرات

اس سال مندرجہ بالا درجات کے طالب علم ذاتی نشوونما، صحت اور فزیکل ایجوکیشن (PDHPE) (Personal Development, Health and Physical Education) کے لازمی مضمون میں شریک ہوں گے۔

ہمارے سکول کے PDHPE پروگرام میں تحفظ بچگان کی لازمی تعلیم شامل ہے۔ تحفظ بچگان کی تعلیم میں پڑھایا جانے والا کچھ مواد حساس معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ سکول عمر کے لحاظ سے مناسب انداز میں یہ مواد پڑھائے گا۔

اگلے صفحے پر وہ مخصوص مواد دکھایا گیا ہے جو تحفظ بچگان کی تعلیم میں شامل ہو گا۔

تحفظ بچگان کی تعلیم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی PDHPE ویب سائٹ پر [Child protection and respectful relationships education](#) (تحفظ بچگان اور احترام پر مبنی رشتوں کی تعلیم) کا حصہ دیکھیں۔

اس ٹرم میں تحفظ بچگان کی تعلیم کے فی ہفتہ اسباق کی تعداد اوپر دکھائی گئی ہے۔

اگر آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی سکول کے اس رابطہ شخص سے رابطہ کریں جس کا نام اور فون نمبر اوپر لکھا ہے۔

### ٹیلیفون انٹریپرٹ سروس

اگر آپ کو سکول سے رابطہ کرنے کیلئے انٹریپرٹ (زبانی مترجم) کی مدد درکار ہے تو براہ مہربانی 13 14 50 پر ٹیلیفون انٹریپرٹ سروس کو فون کریں اور اپنی زبان کا انٹریپرٹ مانگیں۔ آپریٹر سکول کو فون کرے گا اور بات چیت میں مدد کے لیے فون لائن پر انٹریپرٹ مہیا کر دے گا۔ آپ سے اس سروس کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔

نیک تمناؤں کے ساتھ

پرنسپل (Principal)

تحفظ بچگان کی تعلیم میں پڑھائے جانے والے مواد میں یہ شامل ہے:

The content which will be covered in child protection education includes:

(Staff to tick the relevant boxes below for Early Stage 1 content.)

جذبات اور جسمانی ردعمل  
Feelings and body reactions

تعلقات اور رشتے  
Relationships with others

لوگ ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھتے ہیں  
How people care for each other

جسم کے حصے (ستر اور ستر کے علاوہ حصے)  
Body parts (private and non-private)

پیدائش کے بعد سے جسمانی تبدیلیاں اور صلاحیتیں  
Changes in body and abilities since birth

حقوق اور فرائض  
Rights and responsibilities

خاندانوں کی بناوٹ  
Family structures

محفوظ اور غیر محفوظ صورتحال کو پہچاننا اور صورتحال میں قدم اٹھانا  
Recognising and responding to safe and unsafe situations

مثبت تعلقات اور امدادی نیٹ ورکس  
Positive relationships and support networks

محفوظ رہنے اور مدد مانگنے کے طریقے  
Strategies to stay safe and ask for help

مناسب لمس اور نامناسب لمس  
Appropriate and inappropriate touching

دوسروں کا احترام ظاہر کرنے کے طریقے  
Ways to show respect to others

محفوظ فیصلے کرنا  
Making safe decisions